


گلشن

اورادالفتحیۃ

معہ دعا

مترجم اردو!

پبلشرز

گلشن پبلشرز سری نگر۔

کشمیر۔



اَوْرَادُ الْفَتْحِيَّةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالےٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنیوالا ہے

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ سہ بار اَلَّذِیْ

میں اُس خدائے بزرگ سے مغفرت چاہتا ہوں جسکی ذات کے سوا

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ

اور کوئی ہستی عبات کے لائق نہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم ہے اور

اَتُوْبُ اِلَیْهِ وَ اَسْئَالُهُ التَّوْبَةَ


میں اُسی کی طرف لوٹتا ہوں اور اُسی سے توبہ کا سوال کرتا ہوں

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

اے اللہ تو سلامتی ہے اور تیری طرف سے مخلوقات کی سلامتی ہے

وَاِلَیْكَ یَرْجِعُ السَّلَامُ

اور تیری طرف سلامتی لوٹتی ہے



حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا

اے ہمارے پالنے والے خدا ہمیں سلامتی سے زندہ رکھ اور ہمیں سلامتی کے گھر یعنی

دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ

جنت میں داخل کر اے ہمارے رب تو برکت والا ہے اور

تَعَالَيْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

اے عزت اور بزرگی والے خدا تو بہت اونچا ہے

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُّوَافِيْ

اے خدا تیرے لیے ایسی تعریف ہے جو تیری تمام

نِعَمَكَ وَيُكَافِيْ مَزِيْدَ كَرَمِكَ

نعمتوں کو پورا کردے اور تیری مزید بخشش کی برابری کرے

اَحْمَدُكَ بِجَمِيْعِ مَحَامِدِكَ مَاعَلِمْتُ


میں تیری ان تمام خوبیوں کی تعریف کرتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں

مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَعَلٰى جَمِيْعِ نِعَمِكَ

اور جو مجھ سے پوشیدہ ہیں اسی طرح میں تیری ان سب نعمتوں کا شکرگذار

مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَعَلٰى

ہوں جن سے میں واقف ہوں اور جن سے نہیں اور



کُلِّ حَالٍ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ

ہر حالت میں میں پناہ مانگتا ہوں خدا تعالیٰ سے شیطان

الرَّجِیْمِ ۔ اَللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ اَلْحَیُّ

مردود کی شر سے خدا ایسا معبود ہے جس کے سوا اور کوئی لائق عبادت نہیں ہمیشہ

الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَۃٌ وَّلَا

زندہ رہنے والا اور قایم ہے نہ اسے اونگھ پکڑتی ہے اور نہ

نَوْمٌ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی

نیند زمینوں اور آسمانوں کی ساری چیزیں اسی کی ہیں

الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ

کون ہے جو اس (خدا) کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی

اِلَّا بِاِذْنِہٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْھِمْ وَمَا

شفارش کرے وہ (خدا) ان لوگوں کے سامنے اور پیچھے کی چیزیں سب

خَلْفَھُمْ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖٓ

جانتا ہے اور خدا کے نیک بندے (مراد پیغمبران) کسی چیز کے متعلق اتنا ہی جانتے

اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ

ہیں جتنا خدا چاہتا ہے اس کا علم تمام آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے



وَالْاَرْضَ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ

خدا تعالے کو تھکاتی نہیں ہے ان کی حفاظت اور

هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ○ سُبْحَانَ اللّٰہِ سی و سہ بار ۳۳

کیونکہ وہ بہت بلند اور بزرگ ہے اللہ تعالے بہت پاک ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سی و سہ بار ۳۳ اَللّٰہُ اَکْبَرُ سی و چہار بار ۳۴

اللہ ہی کیلیے تمام تعریفیں ہیں اللہ بہت بڑا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ

اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ایک ہے اسکا کوئی شریک نہیں

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ

اسی کے لیے بادشاہی ہے اسی کیلیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت

شَیْءٍ قَدِیْرٌ دہ بار لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ الْمَلِكُ

رکھنے والا ہے اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبردست

اَلْجَبَّارُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

بادشاہ ہے اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو ایک اور قہر کرنیوالا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ الْعَزِیْزُ الْغَفَّارُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو غیر تمند اور بہت مغفرت کرنیوالا ہے اس خدا



اللّٰہُ الکریمُ الستّارُ لَآ اِلٰہَ اللّٰہ

کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو بزرگ اور عیبوں سے پردہ ڈالنے والا ہے اس خدا کے

الکبیرُ المتعالُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ خالق

سوا اور کوئی معبود نہیں جو بہت بڑا اور اونچا ہے اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں

اللیلِ والنہارِ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ المعبودُ

جو رات اور دن کو پیدا کرنیوالا ہے اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جسکو ہر جگہ پوجا

بکلِّ مکانٍ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ المذکورُ

جاتا ہے اس خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو ہر زبان

بکلِّ لسانٍ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ المعروفُ

سے ذکر کیا جاتا ہے اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر احسان

بکلِّ احسانٍ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کلَّ یومٍ

کے ساتھ مشہور ہے اس خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو ہر دن

ھوَ فی شانٍ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ایمانًا

ایک نئی شان میں ہوتا ہے اس خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں میں

باللّٰہِ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اٰمانًا من اللّٰہِ

خدا پر ایمان لاتے ہوئے کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں خدا سے امن چاہتے



لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اَمَانَۃً عِنْدَ اللّٰہِ لَآ اِلٰہَ

ہوئے کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں یہ کلمہ خدا کے نزدیک امانت ہے اللہ کے

اِلَّا اللّٰہُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ

سوا اور کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کو قوت اور طاقت نہیں

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِیَّاہُ لَآ

اللہ تعالےٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے

اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ حَقًّا حَقًّا لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ

اللہ تعالےٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے اللہ تعالےٰ کے سوا اور

اِیْمَانًا وَّصِدْقًا لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ تَعَبُّدًا

کوئی معبود نہیں میں اعتقاد اور صدق دلی سے کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں

وَّرِقًّا لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ تَلَطُّفًا وَّرِفْقًا

خدا کی بندگی اور غلامی کیساتھ کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو مہربان اور

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ قَبْلَ کُلِّ شَیْءٍ لَآ اِلٰہَ

رفیق ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو ہر چیز سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کے سوا

اِلَّا اللّٰہُ بَعْدَ کُلِّ شَیْءٍ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ

کوئی اور معبود نہیں جو ہر چیز کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں



يَبْقٰى رَبُّنَا وَيَفْنٰى وَيَمُوْتُ كُلُّ شَىْءٍ لَآ

جو خود باقی رہے گا جبکہ دنیا کی ہر ایک چیز فنا ہوگی اور مر جائیگی اللہ تعالیٰ

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ لَآ اِلٰهَ

کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو کھلم کھلا حق کیساتھ بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ کے

اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْيَقِيْنُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

سوا کوئی اور معبود نہیں جو یقینا حق کیساتھ بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی

اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ

اور معبود نہیں جو اونچا اور بڑا ہے اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو نرم

الْكَرِيْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ

اور بخشش کرنیوالا ہے اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو سات آسمانوں کا

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

پالنے والا اور بزرگ عرش کا پالنے والا ہے اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود

اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

نہیں جو سخیوں میں سب سے بڑھ کر ہے اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں

اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حَبِيْبُ

جو رحم کرنیوالوں میں سب سے بڑھکر رحم کرنیوالا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں



التَّوَّابِيْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَاحِمُ

جو توبہ کرنیوالوں کا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو مسکینوں پر

الْمَسَاكِيْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ هَادِى

رحم کرنیوالا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو گمراہوں کو ہدایت

الْمُضِلِّيْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَلِيْلُ الْحَائِرِيْنَ

دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو حیرانوں کا رہنما

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَمَانُ الْخَائِفِيْنَ لَآ اِلٰهَ

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو خوفزدہ لوگوں کے لیے امن ہے اللہ کے سوا کوئی

اِلَّا اللّٰهُ غِيَاثُ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ لَآ اِلٰهَ

اور معبود نہیں جو فریادیوں کے فریاد کو پہنچانیوالا ہے اس اللہ کے سوا

اِلَّا اللّٰهُ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَيْرُ


کوئی اور معبود نہیں جو مدد کرنیوالوں میں سب سے بہتر ہے اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں

الْحَافِظِيْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

جو بہترین محافظ ہے اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو میراث لینے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو سب سے اچھا حاکم ہے اس اللہ کے سوا کوئی معبود



خَیْرُ الرَّازِقِیْنَ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ خَیْرُ

نہیں جو سب سے اچھا رزق دینے والا ہے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو سب سے اچھا

الْفَاتِحِیْنَ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ خَیْرُ الْغَافِرِیْنَ

وسعت کرنیوالا ہے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہترین مغفرت کرنیوالا ہے

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ خَیْرُ الرّٰحِمِیْنَ لَآ اِلٰہَ اِلَّا

اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو بہترین رحم کرنیوالا ہے اس اللہ کے سوا کوئی

اللّٰہُ وَحْدَہٗ وَصَدَقَ وَعْدَہٗ وَنَصَرَ عَبْدَہٗ وَ

اور معبود نہیں جو فقط ایک ہے اور جس نے سچا کیا اپنا وعدہ اور اپنے بندے (حضرت محمدؐ)

اَعَزَّ جُنْدَہٗ وَھَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَہٗ وَلَا شَیْءَ بَعْدَہٗ

کو فتح دی اور اسکے لشکر کو غالب کیا اور شکست دی اسکی اکیلی ذات نے کافروں کو اور جسکے بعد

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اَھْلُ النِّعْمَۃِ وَلَہُ


کوئی اور چیز نہیں اس خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو نعمت والا ہے اور جسکے لیے

الْفَضْلُ وَلَہُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَآ اِلٰہَ

فضیلت ہے اور جس کے لیے اچھی تعریف ہے خدا کے سوا کوئی

اِلَّا اللّٰہُ عَدَدَ خَلْقِہٖ وَزِنَۃَ عَرْشِہٖ

اور معبود نہیں اس کی مخلوق کے شمار اور عرش کے وزن



وَرِضَاءَ نَفْسِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

اور اسکی ذات کی رضامندی اور اسکے کلمات کی روشنائی کے برابر

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ صَاحِبُ الْوَحْدَانِيَّةِ

اس خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو صرف ایک واحد

الْفَرْدَانِيَّةِ الْقَدِيْمِيَّةِ الْاَزَلِيَّةِ

مفرد اور ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ رہنے والی ذات ہے

الْاَبَدِيَّةِ لَيْسَ لَهٗ ضِدٌّ وَّلَا نِدٌّ وَّ

جس کی نہ کوئی ضد ہے اور نہ برابری اور

لَا شِبْهٌ وَّلَا شَرِيْكٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

نہ ہم شکل اور نہ ساجھی اس خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں

وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

جو فقط ایک ہے جس کا کوئی ساجھی نہیں جس کے لیے پادشاہی شایاں شان ہے

الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا

اور جسکے لیے تمام تعریفیں ہیں جو جلاتا ہے اور مارتا ہے لیکن خود زندہ ہے نہ مرنے

يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

والا ہے اسی کے قبضہ قدرت میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

Scanned by CamScanner



قَدِيْرٌ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ هُوَ الْاَوَّلُ وَ

اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے اسی کی ذات پہلی بھی ہے اور

الْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ

آخر بھی اور ظاہر بھی اور چھپی ہوئی بھی وہ ہر چیز کو

شَيْءٍ عَلِيْمٌ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَّهُوَ

جانتا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ بہت

السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ

سننے والا اور دیکھنے والا ہے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھی

الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

وکالت کرنیوالا ہے وہ اچھا آقا اور اچھا مددگار ہے

سہ بار غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ


اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی مغفرت مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا

لوٹنے کی جگہ ہے اے خدا جس چیز کو تو عطا کرے اسے کوئی نہیں روک سکتا اور

مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَآدَّ لِمَا

جو چیز تو نہ دینا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا اور جس چیز کا تو فیصلہ کر دے اسے کوئی



قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحٰنَ

لوٹا نہیں سکتا اور نہ ہی فائدہ دیتی تیرے سامنے دولتمند کی دولتمندی میرا وہ رب

رَبِّیَ الْعَلِیِّ الْاَعْلٰی الْوَهَّابِ سُبْحٰنَ رَبِّیَ

پاک ہے جو بہت ہی اونچا ہے اور بہت بخشنے والا ہے میرا وہ رب پاک ہے

الْعَلِیِّ الْاَعْلٰی الْکَرِیْمِ الْوَهَّابِ یَا

جو بہت ہی اونچا اور بہت ہی بخشنے والا اور عطا کرنے والا ہے اے

وَهَّابُ سُبْحٰنَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ

بہت بخشنے والے تو پاک ہے ہم نے تیری عبادت جیسا کہ تیرا حق تھا نہیں

عِبَادَتِكَ سُبْحٰنَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ

کی اے پاک خدا ہم نے تجھے جیسا کہ تیرا حق تھا نہیں پہنچانا

مَعْرِفَتِكَ سُبْحٰنَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ

اے پاک خدا ہم نے تیرا حق تیرے حق کے مطابق

ذِكْرِكَ سُبْحٰنَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ

نہیں کیا اے پاک خدا ہم نے تیرا شکر تیرے لایق نہیں

شُكْرِكَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْاَبَدِیِّ الْاَبَدِ

کیا پاک اللہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے



سُبْحٰنَ اللّٰہِ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ سُبْحٰنَ اللّٰہِ

پاک ہے اللہ ذات وصفات میں فقط ایک ہے پاک اللہ

الْفَرْدِ الصَّمَدِ سُبْحٰنَ اللّٰہِ رَافِعِ

فقط ایک ہے اور بے نیاز ہے پاک اللہ آسمانوں کو بلند

السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ سُبْحٰنَ اللّٰہِ الَّذِیْ

کرنیوالا ہے ستونوں کے بغیر پاک اللہ نے

لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَۃً وَّلَا وَلَدًا سُبْحٰنَ اللّٰہِ

نہ تو اختیار کی ہے بیوی اور نہ اولاد اللہ وہ ذات پاک ہے

الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ

جس نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ ہی دوسروں سے جنا گیا ہے اور نہ ہی

کُفُوًا اَحَدٌ سُبْحٰنَ الْمَلِکِ الْقُدُّوْسِ سُبْحٰنَ

اس کا کوئی ہمسر اور برابر ہے پاک ہے اللہ جو ایک ہی پاکیزہ بادشاہ ہے پاک ہے اللہ

ذِی الْمُلْکِ وَالْمَلَکُوْتِ سُبْحٰنَ ذِی

جو دنیا کے ظاہر ملک اور فرشتوں کی دنیا کا بادشاہ ہے پاک ہے جو

الْعِزَّۃِ وَالْعَظَمَۃِ وَالْقُدْرَۃِ وَالْهَیْبَۃِ

عزت اور بڑائی اور قدرت اور ہیبت



وَالْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَالْكَمَالِ وَالْبَقَاءِ

اور جلال (رعب) اور حسن و جمال اور کمال اور ہمیشگی

وَالثَّنَاءِ وَالضِّيَاءِ وَالْآلَاءِ وَالنَّعْمَاءِ وَ

اور تعریف اور روشنی اور باطنی نعمتیں اور ظاہری نعمتیں

وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحٰنَ الْمَلِكِ

اور بزرگی اور بہت رعب داب والا ہے پاک ہے اللہ جو ایسا

الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ

بادشاہ ہے زندہ جو نہ کبھی سوتا ہے اور نہ مرتا ہے وہ بہت پاک ہے اور

قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ

منزہ ہے وہ ہمارا اور فرشتوں اور روحوں کا رب ہے

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

پاک ہے خدا اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا

اور اللہ بہت بڑا ہے اور نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت کسی اور کو

بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ

بلند اور برتر خدا کے سوا اے خدا تو وہ

الملک الحق الذی لا الٰہ الا انت

سچا بادشاہ ہے کہ نہیں ہے اور کوئی معبود تیری ذات کے سوا

یا اللہ	یا رحمٰن	یا رحیم	
اے اللہ	اے دنیا میں رحم کرنیوالے	اے آخرت میں رحم کرنیوالے	
یا مَلِکُ	یا قُدُّوسُ	یا سلامُ	یا مُؤمِنُ
اے بادشاہ	اے پاک	اے سلامتی والے	اے امن دینے والے
یا مُہَیمِنُ	یا عَزِیزُ	یا جبّارُ	یا مُتَکَبِّرُ
اے بہت حفاظت کرنیوالے	اے غالب رہنے والے	اے زبردست حکم دینے والے	اے عظمت والے
یا خالِقُ	یا بارِئُ	یا مُصَوِّرُ	یا غفّارُ
اے پیدا کرنیوالے	اے آسمان پیدا کرنیوالے	اے صورتیں بنانیوالے	اے بہت مغفرت والے
یا قہّارُ	یا وہّابُ	یا رزّاقُ	یا فتّاحُ
اے بہت قہر کرنیوالے	اے بہت بخشنے والے	اے بہت رزق دینے والے	اے بہت کھولنے والے
یا عَلِیمُ	یا قابِضُ	یا باسِطُ	یا خافِضُ
اے بہت جاننے والے	اے رزق تنگ کرنیوالے	اے رزق کھولنے والے	اے پست کرنیوالے
یا رافِعُ	یا مُعِزُّ	یا مُذِلُّ	یا سمیعُ
اے بلند کرنیوالے	اے عزت دینے والے	اے ذلت دینے والے	اے بہت سننے والے

یَا بَصِیْرُ	یَا حَکَمُ	یَا عَدْلُ	یَا لَطِیْفُ
اے بہت دیکھنے والے	اے حکم کرنیوالے	اے انصاف کرنیوالے	اے مہربانی کرنیوالے
یَا خَبِیْرُ	یَا حَلِیْمُ	یَا عَظِیْمُ	یَا غَفُوْرُ
اے خبر رکھنے والے	اے نرمی کرنیوالے	اے عظمت والے	اے بخشنے والے
یَا شَکُوْرُ	یَا عَلِیُّ	یَا کَبِیْرُ	یَا حَفِیْظُ
اے بہت شکر قبول کرنیوالے	اے بہت اونچے	اے بہت بڑے	اے حفاظت کرنیوالے
یَا مُقِیْتُ	یَا حَسِیْبُ	یَا جَلِیْلُ	یَا کَرِیْمُ
اے روزی دینے والے	اے مصیبتوں میں کافی ہونیوالے	اے بہت بڑے	اے بہت سخی
یَا رَقِیْبُ	یَا مُجِیْبُ	یَا وَاسِعُ	یَا حَکِیْمُ
اے خیال رکھنے والے	اے دعا کو قبول کرنیوالے	اے وسعت کرنیوالے	اے حکمت والے
یَا وَدُوْدُ	یَا مَجِیْدُ	یَا بَاعِثُ	یَا شَہِیْدُ
اے محبت کرنیوالے	اے بزرگی والے	اے قبروں سے اٹھانیوالے	اے حاضر و ناظر
یَا حَقُّ	یَا وَکِیْلُ	یَا قَوِیُّ	یَا مَتِیْنُ
اے سچ	اے کام کے ذمہ دار	اے قوت والے	اے سنجیدہ
یَا وَلِیُّ	یَا حَمِیْدُ	یَا مُحْصِیُ	یَا مُبْدِئُ
اے دوستی والے	اے تعریف کیے ہوئے	اے شمار کرنیوالے	اے بغیر کسی چیز کے پیدا کرنیوالے

یَا مُعِیْدُ	یَا مُحْیِیْ	یَا مُمِیْتُ	یَا حَیُّ
اے دوبارہ لوٹانیوالے	اے زندہ کرنیوالے	اے مارنے والے	اے زندہ رہنے والے
یَا قَیُّوْمُ	یَا وَاجِدُ	یَا مَاجِدُ	یَا وَاحِدُ
اے ہمیشہ زندہ رہنے والے	اے پالنے والے	اے بزرگ مطلق	اے خوبیوں میں یکتا
یَا اَحَدُ	یَا صَمَدُ	یَا قَادِرُ	یَا مُقْتَدِرُ
اے وجود میں ایک	اے بے پروا	اے قدرت والے	اے اقتدار و عزت والے
یَا مُقَدِّمُ	یَا مُؤَخِّرُ	یَا اَوَّلُ	یَا آخِرُ
اے آگے کرنیوالے	اے پیچھے کرنیوالے	اے سب میں پہلے	اے سب کے بعد رہنے والے
یَا ظَاهِرُ	یَا بَاطِنُ	یَا وَالِیُ	یَا مُتَعَالِیُ
اے ظاہر	اے چھپے ہوئے	اے مالک	اے بلند
یَا بَرُّ	یَا تَوَّابُ	یَا مُنْعِمُ	یَا مُنْتَقِمُ
اے نیک	اے توبہ قبول کرنیوالے	اے انعام کرنیوالے	اے بدلہ لینے والے
یَا عَفُوُّ	یَا رَؤُفُ	یَا مَالِکَ	اَلْمُلْکِ
اے معاف کرنیوالے	اے مہربان	اے ملک کے	مالک

یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ

اے عزت اور بزرگی والے

یَا رَبُّ	یَا مُقْسِطُ	یَا جَامِعُ	یَا غَنِیُّ
اے پالنے والے	اے انصاف کرنیوالے	اے لوگوں کو جمع کرنیوالے	اے دولتمند
یَا مُغْنِیُ	یَا مُعْطِیُ	یَا مَانِعُ	یَا ضَآرُّ
اے دولت دینے والے	اے عطا کرنیوالے	اے برائیوں سے روکنے والے	اے نقصان دینے والے
یَا نَافِعُ	یَا نُوْرُ	یَا هَادِیُ	یَا بَدِیْعُ
اے نفع پہنچانیوالے	اے روشنی	اے ہدایت کرنیوالے	اے چیزوں کو پیدا کرنیوالے
یَا بَاقِیُ	یَا وَارِثُ	یَا رَشِیْدُ	یَا صَبُوْرُ
اے ہمیشہ رہنے والے	اے میراث دینے والے	اے ہدایت کرنیوالے	اے بہت صبر والے
یَا صَبُوْرُ	یَا صَادِقُ	یَا سَتَّارُ	یَا مَنْ
اے بہت صبر والے	اے سچے	اے پردہ پوش	اے وہ خدا

تَقَدَّسَ عَنِ الْاَشْبَاهِ ذَاتُهٗ وَتَنَزَّهَ عَنْ

جس کی ذات ہم شکل ہونے سے پاک ہے اور جسکی صفتیں مثل

مُشَابَهَةِ الْاَمْثَالِ صِفَاتُهٗ وَیَا مَنْ

ہونے سے بری ہیں اے وہ خدا جس کے

دَلَّتْ عَلٰی وَحْدَانِیَّتِهٖ اٰیَاتُهٗ وَشَهِدَتْ

ایک ہونے پر اس کی نشانیاں دلالت کرتی ہیں اور گواہ ہیں



بِرُبُوبِيَّتِهٖ مَصْنُوعَاتُهٗ وَاحِدًا مِنْ

اس کی بنائی ہوئی چیزیں گواہ ہیں اس کے پروردگار ہونے پر جو کسی کمی کی وجہ سے

قِلَّةٍ وَمَوْجُودًا مِنْ عِلَّةٍ يَا مَنْ هُوَ

ایک نہیں اور جو کسی سبب کی وجہ سے موجود نہیں اے وہ خدا جو نیکی میں

بِالْبِرِّ مَعْرُوفٌ وَبِالْاِحْسَانِ مَوْصُوفٌ

مشہور ہے اور احسان کے اور احسان کے ساتھ موصوف ہے

مَعْرُوفٌ بِلَا غَايَةٍ وَمَوْصُوفٌ بِلَا نِهَا

جو مشہور ہے اور بلا ختم ہونے کے تعریف کیا گیا ہے

يَةٍ اَوَّلٌ قَدِيمٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ وَاٰخِرٌ كَرِيمٌ

وہ بغیر ابتدا کے پہلا اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور بغیر انتہا کے سب

بِلَا انْتِهَاءٍ وَغَفَرَ ذُنُوبَ الْمُذْنِبِينَ كَرَمًا


آخیر اور سخی ہے جس نے گناہ گاروں کے گناہ اپنے کرم اور نرمی سے

وَحِلْمًا يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ

معاف کر دیئے اے وہ ذات جس کے مثل کوئی چیز نہیں جو بہت سننے

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

والی اور دیکھنے والی ہے ہمیں خدا تعالٰے کافی ہے وہ اچھا کارساز



نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَیْكَ

اچھا آقا اور اچھا مددگار ہے تیری ہی بخشائش ہے اے خدا اور تیری ہی

الْمَصِیْرُ یَا دَائِمًا بِلَا فَنَآءٍ وَّ یَا قَائِمًا بِلَا زَوَالٍ

ہی طرف رجوع ہے اے خدا بغیر فنا کے ہمیشہ رہنے والے اے بغیر زوال کے ہمیشہ قائم اور

وَیَا مُدَبِّرًا بِلَا وَزِیْرٍ سَهِّلْ عَلَیْنَا وَعَلٰی وَالِدِیْنَا

بغیر وزیر کے تدبیر کرنے والے آسان کر دے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر

كُلَّ عَسِیْرٍ لَآ اُحْصِیْ ثَنَآءً عَلَیْكَ

ہر ایک مشکل کو میں نہیں شمار کر سکتا ہوں تیری تعریف کو

اَنْتَ كَمَآ اَثْنَیْتَ عَلٰی نَفْسِكَ

جیسا کہ تو نے اپنی ذات پر کی ہے

عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَآؤُكَ

تیرا ہمسایہ غیرتمند ہے اور تیری تعریف بہت بڑی ہے

وَتَقَدَّسَتْ اَسْمَآؤُكَ وَعَظُمَ

تیرے نام بہت پاکیزہ اور تیری شان

شَاْنُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَیْرُكَ یَفْعَلُ اللّٰهُ

بہت اونچی ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں خدا تعالیٰ اپنی



مَا یَشَآءُ بِقُدْرَتِہٖ وَیَحْکُمُ مَا یُرِیْدُ

قدرت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور عزتمندی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے

بِعِزَّتِہٖ اَلَا اِلَی اللّٰہِ تَصِیْرُ الْاُمُوْرُ

جان لوکہ دنیا کی تمام چیزیں خدا سے ہی تعلق رکھتی ہیں

کُلُّ شَیْءٍ ھَالِکٌ اِلَّا وَجْھَہٗ لَہُ

اسکی ذات کے سوا ہر ایک چیز ہلاک ہونیوالی ہے اسی کا

الْحُکْمُ وَاِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ فَسَیَکْفِیْکَھُمُ

حکم ہے اور اسی کی طرف اے لوگو تم لوٹو گے خدا ان سب لوگوں کو

اللّٰہُ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ حَسْبُنَا اللّٰہُ

کافی ہوگا کیونکہ وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے خدا تعالیٰ ہمارے لیے

وَکَفٰی سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ دُعَآءَ

بس اور کافی ہے خدا نے سن لیا جس نے اسے پکارا

لَیْسَ وَرَآءَ اللّٰہِ الْمُنْتَھٰی مَنْ

خدا کے بعد لوگوں کی مرادوں کی انتہا اور کہیں نہیں جس شخص

اعْتَصَمَ بِاللّٰہِ نَجٰی سُبْحَانَ مَنْ لَمْ

نے خدا تعالیٰ کو پکڑا اس نے نجات پائی وہ خدا نہایت پاکیزہ ہے جو ہمیشہ



لَمْ يَزَلْ رَبًّا رَحِيمًا وَّلَا يَزَالُ كَرِيمًا

رحم کرنے والا پروردگار اور سخی رہا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ

اس اللہ کے سوا جو نرم اور سخی ہے اور کوئی خدا نہیں جو عبادت کے لائق ہو

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ

اللہ تعالےٰ با برکت ہے اور پاکیزہ ہے آسمانوں

السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ

اور عرش عظیم کا پروردگار ہے تمام تعریفیں اس

لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ

اللہ کے لیئے ثابت ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس خدا کے سوا کوئی اور

لَا شَرِيكَ لَهٗ اِلٰهًا وَّاحِدًا اَحَدًا

معبود نہیں ہے جو ایک ہے جسکا کوئی شریک نہیں جو صفت اور ذات میں

صَمَدًا فَرْدًا وِّتْرًا حَيًّا قَيُّومًا دَائِمًا

ایک ہے جو بے نیاز اور یگانہ ہے جو طاق ہے زندہ ہے قائم رہنے والا ہے

اَبَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا

ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے جس نے بیوی نہیں کی جس کا بیٹا نہیں



وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ

جس کا ملک میں کوئی شریک نہیں جس کا

يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ

ذلت کے وقت کوئی مددگار نہیں اور وہ خدا بہت بڑا

تَكْبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ حَسْبُنَا اللّٰهُ لِدِيْنِنَا

اور اونچا ہے اور بہت بڑا ہے اللہ ہمیں ہمارے دین کیلئے کافی ہے

حَسْبُنَا اللّٰهُ لِدُنْيَانَا حَسْبُنَا اللّٰهُ لِمَا

اللہ ہمارے دنیا کے لیئے کافی ہے اللہ ہمیں اس چیز کیلئے کافی ہے جو ہمیں

اَهَمَّنَا حَسْبُنَا اللّٰهُ لِمَنْ بَغٰى عَلَيْنَا

غمگین بنائے اللہ ہمیں اس شخص کے لیئے کافی ہے جو ہم پر ظلم کرے

حَسْبُنَا اللّٰهُ لِمَنْ حَسَدَنَا حَسْبُنَا اللّٰهُ لِمَنْ

اللہ ہمیں اس شخص کیلئے کافی ہے جو ہم سے حسد کرے اللہ ہمیں اس شخص کیلئے کافی

كَادَنَا بِالسُّوْٓءِ حَسْبُنَا اللّٰهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

ہے جو ہمارے ساتھ برائیوں سے ٹکر لے ہمیں اللہ تعالے موت کے وقت کافی ہے

حَسْبُنَا اللّٰهُ عِنْدَ الْقَبْرِ حَسْبُنَا اللّٰهُ عِنْدَ الْمَسَائِلِ

ہمیں اللہ تعالے قبر کے وقت کافی ہے ہمیں اللہ تعالے سوالوں کے وقت کافی ہے



حَسْبُنَا اللّٰهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبُنَا اللّٰهُ

ہمیں اللہ تعالےٰ پل صراط کیوقت کافی ہے ہمیں اللہ تعالےٰ حساب

عِنْدَ الْحِسَابِ حَسْبُنَا اللّٰهُ عِنْدَ الْمِيْزَانِ

کے وقت کافی ہے ہمیں اللہ تعالےٰ تولنے کے وقت کافی ہے

حَسْبُنَا اللّٰهُ عِنْدَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَسْبُنَا اللّٰهُ

ہمیں اللہ تعالےٰ جنت اور دوزخ میں جانیکے وقت کافی ہے ہمیں اللہ تعالےٰ

عِنْدَ اللِّقَآءِ حَسْبِیَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ

اپنے دیدار کے وقت کافی ہے مجھے وہ خدا کافی ہے جسکے سوا کوئی اور معبود

اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ لَآ

نہیں اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹوں گا خدا کے سوا

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ مَآ اَعْظَمَ اللّٰهَ

کوئی اور معبود نہیں سبحان اللہ (کلمہ تعجب) خدا کس قدر بڑا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَآ اَحْلَمَ اللّٰهَ

خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں سبحان اللہ خدا کس قدر حلیم ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَآ اَكْرَمَ اللّٰهَ

خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں سبحان اللہ خدا کسقدر کریم ہے



لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو فقط ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
اور محمد مصطفٰے بالیقین خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اے خدا درود اور رحمت

مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَصَلِّ
بھیج حضرت محمد پر جب جب آپ کا ذکر کرنیوالے ذکر کریں اور اسی طرح درود رحمت

عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهٖ
بھیج حضرت محمد پر جب جب کہ آپ کے ذکر سے غافل لوگ غفلت

الْغٰفِلُوْنَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ تَعَالٰى رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ
اختیار کریں ہم راضی ہیں اللہ تعالےٰ سے اسکے رب ہونیکے اور اسلام

دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سے بلحاظ اس کا دین ہونیکے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَّ
بلحاظ اس کے نبی اور رسول ہونیکے اور قرآن سے بلحاظ پیشوا ہونے کے اور

بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّبِالصَّلٰوةِ فَرِيْضَةً
کعبہ سے بلحاظ قبلہ ہونے کے اور نماز سے بلحاظ فریضہ ہونے کے



وَبِالْمُؤْمِنِیْنَ اِخْوَانًا وَّبِالصِّدِّیْقِ

اور تمام ایمان والوں سے بلحاظ بھائی ہونیکے اور حضرت ابوبکر صدیق

وَبِالْفَارُوْقِ وَبِذِی النُّوْرَیْنِ وَ

اور حضرت عمر فاروق سے اور عثمان ذی النورین سے اور

بِالْمُرْتَضٰی اَئِمَّۃً رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی

حضرت علی مرتضیٰ سے بلحاظ پیشوا ہونیکے خدا تعالےٰ کی رضامندیاں

عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ مَرْحَبًا بِالصَّبَاحِ الْجَدِیْدِ

ہوں ان سب پر مبارکباد ہو نئے صبح کی

وَبِالْیَوْمِ السَّعِیْدِ وَبِالْمَلَکَیْنِ الْکَاتِبَیْنِ

اور سعادت والے دن کی اور ان فرشتوں کی جو ہمارے اچھے اور

الشَّاہِدَیْنِ الْعَادِلَیْنِ حَیَّاکُمَا اللّٰہُ تَعَالٰی


برے عمل لکھتے ہیں جو عدل و انصاف کے گواہ ہیں اے کرام الکاتبین خدا تعالےٰ کے

فِیْ غُرَّۃِ یَوْمِنَا ہٰذَا اُکْتُبَا فِیْ اَوَّلِ

سلام کے تحفے تم دونوں پر اس دن کے ابتداء میں بھیجے لکھیے ہمارے نامہ اعمال

صَحِیْفَتِنَا بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کے پہلے ورق میں ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم



وَاشْهَدْ اَبَانَا نَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

والا ہے اور تم گواہ رہو کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا تعالے کے سوا کوئی

وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

عبادت کے لائق نہیں جو فقط ایک ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور ہم اس بات کی

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْهُدٰى وَ

گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اسکے رسول ہیں جسکو اللہ نے ہدایت

دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

کرنے کیلیے اور سچے دین کی حمایت کیلیے بھیجا ہے تاکہ اسکا دین دنیا کے تمام دینوں

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ عَلٰى هٰذِهِ الشَّهَادَةِ

پر غالب آجائے گو کہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگ اسکو ناپسند ہی کریں

نَحْيٰ وَعَلَيْهَا نَمُوْتُ وَعَلَيْهَا نُبْعَثُ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

اسی شہادت پر ہم زندہ ہیں اور اسی پر ہم مرجائیں گے اور اسی پر قیامت کیدن

تَعَالٰى اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ كُلِّهَا

اٹھیں گے خدائے تعالے نے چاہا میں اللہ تعالے کی ان کلمات کیساتھ جو سب کے سب

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ بِسْمِ اللّٰهِ

کامل ہیں مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام ناموں سے



رَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ السَّمَآءِ بِسْمِ اللّٰہِ

بہتر ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے میں اس اللہ کے

الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِہٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ

نام سے شروع کرتا ہوں جسکے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ زمین میں

وَلَا فِی السَّمَآءِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ اَلْحَمْدُ

اور نہ آسمانوں میں وہ اللہ بہت جاننے والا اور بہت سننے والا ہے تمام

لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَاِلَیْہِ

تعریفیں اس خدا کے لائق ہیں جس نے ہمیں مرنیکے بعد زندہ کیا جسکی طرف ہم

الْبَعْثُ وَالنُّشُوْرُ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ

قیامت کے دن اٹھیں گے اور پھیلائے جائینگے ہم نے اور خدا کے تمام ملک نے صبح کی

لِلّٰہِ الْعِزَّۃُ وَالْعَظَمَۃُ وَالْكِبْرِیَآءُ وَالْجَبَرُوْتُ

عزت عظمت بڑائی سختی رعب

وَالسُّلْطَانُ وَالْبُرْھَانُ لِلّٰہِ وَالْاٰلَآءُ وَالنَّعْمَآءُ

اور روشن دلیل خدا تعالےٰ ہی کے لیئے ہے ظاہری اور باطنی تمام

لِلّٰہِ وَاللَّیْلُ وَالنَّھَارُ لِلّٰہِ وَمَا سَكَنَ فِیْھِمَا

نعمتیں خدا تعالیٰ کیلئے ہی ہیں رات اور دن خدا کیلئے ہیں اسی طرح وہ چیزیں جو رات اور



لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ

دن میں آرام و سکون پکڑتے ہیں اس خدا کی جو ایک ہے اور زبردست ہے

الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ

قہر کرنیوالا ہے ہم نے اسلام فطری اور قدرتی دین اور خدا کو خالص ایک ماننے

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ

کے کلمے اور اپنی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اپنے باپ

اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ

حضرت ابراہیم کے مذہب یعنی دین اسلام پر صبح کی یہ حضرت ابراہیم مسلمان تھے

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ صَلَوٰتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَلٰئِكَتِهٖ

اور شریک ٹھہرانے والے لوگوں میں سے نہ تھے درود اور رحمتیں ہوں خدا تعالیٰ اور اسکے

وَاَنْبِيَائِهٖ وَرُسُلِهٖ وَحَمَلَةِ عَرْشِهٖ وَجَمِيْعِ


فرشتوں اور اس کے انبیاء اور اسکے رسولوں اور اسکے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں

خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

کی اور اسکے تمام مخلوق کی ہمارے آقا حضرت محمد اور آپکی اولاد اور آپکے سب

عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

صحابہ کرام پر اسیطرح آپ پر اور آپکے صحابہ کرام پر خدا کی سلامتی اور اسکی رحمتیں اور



اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ

برکتیں نازل ہوں خدا کے بیشمار درود اور سلام پر اے خدا کے رسول نازل ہوں

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہِ

خدا کے درود اور سلام آپ پر اے خدا کے محبوب نازل ہوں

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا خَلِیْلَ اللّٰہِ

خدا کے درود و سلام آپ پر اے خدا کے دوست نازل ہوں

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللّٰہِ

خدا کے درود و سلام آپ پر اے خدا کے نبی نازل ہوں

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صَفِیَّ اللّٰہِ

خدا کے درود و سلام آپ پر اے خدا کے برگزیدہ نازل ہوں

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا خَیْرَ خَلْقِ اللّٰہِ


خدا کے درود و سلام آپ پر اے خدا کے بہترین مخلوق نازل ہوں

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنِ اخْتَارَہُ اللّٰہُ

خدا کے درود و سلام آپ پر اے وہ ذات جسے خدا نے چنا ہے نازل ہوں

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ اَرْسَلَہُ اللّٰہُ

خدا کے درود و سلام آپ پر نازل ہوں اے وہ ذات جسے خدا نے لوگوں کی طرف



اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ زَیَّنَہُ

رسول بنا کر بھیجا۔ خدا کے درود و سلام نازل ہو آپ پر اے وہ ذات جسے خدا نے

اللّٰہُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ

زینت دی۔ خدا کے درود و سلام نازل ہوں آپ پر اے وہ ذات جسے خدا

شَرَّفَہُ اللّٰہُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ

نے سب سے زیادہ شریف ٹھہرایا خدا کے درود اور سلام نازل ہوں آپ پر اے وہ

یَا مَنْ کَرَّمَہُ اللّٰہُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

ذات جسے خدا نے عزت و تکریم والا کیا ہے خدا کے درود و سلام نازل ہوں

عَلَیْکَ یَا مَنْ عَظَّمَہُ اللّٰہُ اَلصَّلٰوۃُ

آپ پر اے تمام رسولوں کے سردار خدا کے درود اور

وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا سَیِّدَ الْمُرْسَلِیْنَ


سلام نازل ہوئی آپ پر اے تمام رسولوں کے سردار

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا اِمَامَ

خدا کے درود و سلام نازل ہوں آپ پر اے تمام پرہیزگاروں کے

الْمُتَّقِیْنَ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ

پیشوا خدا کے درود و سلام آپ پر نازل ہوں



يَا خَاتِمَ النَّبِيِّينَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

اے تمام نبیوں کے ختم کرنیوالے اور مہر کرنیوالے خدا کے درود و سلام آپ پر

عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ سہ بار

نازل ہوں اے گناہ گاروں کے شفارش کرنیوالے

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

خدا کے درود و سلام آپ پر نازل ہوں اے تمام جہانوں کے پروردگار

رَبِّ الْعٰلَمِينَ صَلَوٰتُ اللّٰهِ تَعَالٰى

کے رسول درود و رحمت نازل ہو اللہ تعالےٰ کی

وَمَلٰئِكَتِهٖ وَاَنْبِيَائِهٖ وَرُسُلِهٖ

اور اسکے فرشتوں کی اور اسکے نبیوں کی اسکے رسولوں کی

وَحَمَلَةِ عَرْشِهٖ وَجَمِيعِ خَلْقِهٖ عَلٰى

اس کے عرش اٹھانیوالے فرشتوں کی اس کی تمام مخلوق کی ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

آقا حضرت محمدؐ اور آپ کی اولاد پر اور صحابہ کرام پر

عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ

اور خدا کی سلامتی اور اسکی رحمت اور اس کی برکتیں حضرت محمدؐ اور آپ



اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

کی آل واصحاب پر نازل ہوں اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَوَّلِيْنَ وَصَلِّ

پہلی پیدائش میں درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمدؐ

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ

پر آخری پیدائش والے لوگوں میں درود و سلام بھیج

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْمَلَاِ

اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر اوپر والی جماعت میں

الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَصَلِّ عَلٰى

قیامت کے دن تک درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى كُلِّ وَقْتٍ وَّحِيْنٍ وَّصَلِّ

حضرت محمدؐ پر ہر گھڑی اور ہر وقت درود و سلام بھیج اور درود

عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى

وسلام بھیج اپنے تمام نبیوں اور رسولوں اور اپنے

مَلٰٓئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰى عِبَادِكَ

تمام مقرب فرشتوں اور اپنے نیک



الصّٰلِحِیْنَ وَعَلٰٓی اَھْلِ طَاعَتِکَ اَجْمَعِیْنَ

بندوں اور اپنے تمام اطاعت گذار بندوں پر اور رحم کر ہم پر ان کے

وَارْحَمْنَا مَعَھُمْ بِرَحْمَتِکَ یَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ

ساتھ اپنی مہربانی سے اے تمام رحم کرنیوالوں سے زیادہ رحم کرنیوالے

دُعَاءِ رِقَاب

گردنوں کے چھٹکارے کی دُعا

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے

اَللّٰھُمَّ یَا مَالِکَ الرِّقَابِ وَیَا مُفَتِّحَ


اے اللہ اے گردنوں کے مالک اے رحمت کے دروازوں کو کھولنے

الْاَبْوَابِ وَیَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ

والے اور اے سبب کرنیوالے خدا ہمارے لیے رزق کا کوئی ایسا سبب

ھَیِّئْ لَنَا سَبَبًا لَّا نَسْتَطِیْعُ لَہٗ طَلَبًا

پیدا کر جس کے تلاش کرنے کی ہمیں طاقت نہیں



اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنَا مَشْغُوْلِیْنَ بِاَمْرِکَ

اے خدا ہمیں اپنے حکم کے ادائیگی اور بجالانے میں مشغول رکھ اپنے انصاف

اٰمِنِیْنَ بِعَدْلِکَ اٰئِسِیْنَ مِنْ خَلْقِکَ

سے اس میں رکھ اپنی مخلوق سے ناامید رکھ

اٰنِسِیْنَ بِکَ مُسْتَوْحِشِیْنَ عَنْ غَیْرِکَ

اپنی ذات کیساتھ محبت دلا اپنے غیر سے ہمیں دور رکھ

رَاضِیْنَ بِقَضَآئِکَ صَابِرِیْنَ عَلٰی

تیرے فیصلے سے راضی رہنے والے تیری مصیبتوں پر صبر گذار

بَلَآئِکَ قَانِعِیْنَ لِعَطَآئِکَ شٰکِرِیْنَ

قناعت کرنے والے تیرے دئے ہوئے پر تیری نعمتوں کے شکر گذار

لِنَعْمَآئِکَ مُتَلَذِّذِیْنَ بِذِکْرِکَ فَرِحِیْنَ

تیرے ذکر سے لذت اٹھانے والے تیری کتاب (قرآن مجید) پر

بِکِتَابِکَ مُنَاجِیْنَ بِکَ فِیْ اٰنَآءِ الَّیْلِ

خوش رہنے والے تیرے ساتھ راتوں کے وقت اور دن کے حصوں میں سرگوشی

وَاَطْرَافِ النَّهَارِ مُبْغِضِیْنَ لِلدُّنْیَا وَ

کرنیوالے دنیا کے بغض سے نفرت کرنے والے

مُحِبِّیْنَ لِلْاٰخِرَةِ مُشْتَاقِیْنَ اِلٰی

دوسری دنیا کو دوست رکھنے والے تیری ملاقات کے شوق مند

لِقَآئِکَ مُتَوَجِّهِیْنَ اِلٰی جَنَابِکَ

تیرے چوکھٹ اور درگاہ کی طرف دل سے متوجہ ہونے والے موت کے لئے ہر وقت

مُسْتَعِدِّیْنَ لِلْمَوْتِ رَبَّنَا وَاٰتِنَا

تیار رہنے والے اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ

مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰی رُسُلِکَ وَلَا تُخْزِنَا

کیا اپنے رسولوں کی زبانی تو ہمیں قیامت کے دن

یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ

ذلیل اور رسوا نہ کر بیشک تو خلاف نہیں کرتا ہے اپنے وعدہ کو

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ التَّوْفِیْقَ رَفِیْقَنَا وَ

اے خدا اپنی موافقت ہمارا ساتھی بنا اور

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ طَرِیْقَنَا اَللّٰهُمَّ

بالکل سیدھے راستے کو ہمارا راستہ اے اللہ

اَوْصِلْنَا اِلٰی مَقَاصِدِنَا وَتُبْ عَلَیْنَا

ہمیں اپنی اپنی مرادوں پر پہنچا اور ہماری طرف اپنی



إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اَللّٰهُمَّ

رحمت سے رجوع کر بیشک تو اپنے بندوں کی طرف لوٹنے والا اور مہربان ہے اے اللہ

بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ

ہم تیرا ہی نام لے کر صبح اور تیرا ہی نام لیکر شام کرتے ہیں اور تجھ سے ہم

نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

زندہ ہیں اور تیری بدولت ہم مر جائیں گے اور تیری ہی طرف ہمارے مرنے کے بعد

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا لَذَّةَ النَّظَرِ إِلٰى

لوٹنے کی جگہ ہے اے خدا ہمیں عطا کر اپنے چہرہ کی طرف دیکھنا

وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلٰى لِقَائِكَ

اور اپنے دیدار کا انتہائی شوق

اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا

اے خدا ہمیں سچائی کو جیسی کہ وہ ہے اپنی اصلی روپ میں دکھا

وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا

اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا کر اسی طرح جھوٹ کو

الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا

بھی اپنے اصلی روپ میں دکھا اور اس سے پرہیز اور دور رہنے



اجْتِنَابَہٗ اَللّٰھُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ

کی توفیق بخش — اے خدا ہمیں تمام چیزوں کی اصلیتیں

الْاَشْیَاءِ کَمَا ھِیَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِیْنَ

جیسی کہ وہ ہیں دکھا — ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں مار

وَاَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِیْنَ وَادْفَعْ عَنَّا

اور ہمیں اپنے نیک کام کرنیوالے بندوں کیساتھ ملا اور ہم سے ظالموں کا

شَرَّ الظّٰلِمِیْنَ وَشَارِکْنَا فِیْ دُعَاءِ

دور کر اور ہمیں اپنے ایمان والے بندوں کی — دعاؤں میں شریک

الْمُؤْمِنِیْنَ وَنَبِّھْنَا عَنْ نَّوْمَۃِ الْغٰفِلِیْنَ

ٹھہرا ہمیں غفلت سے سونے والے لوگوں کی نیند سے بیدار کر

وَارْزُقْنَا شَفَاعَۃَ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ


اور ہمیں تمام رسولوں کے سردار حضرت محمدؐ کی شفاعت نصیب کر

وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّۃَ بِسَلَامٍ اٰمِنِیْنَ

اور ہمیں جنت میں سلامتی اور امن کیساتھ داخل کر

وَاحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِیْنَ وَخَلِّصْنَا

اور اٹھا ہمیں قیامت کے روز پرہیزگاروں کیساتھ اور ہمیں دوزخ کی



مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ

آگ سے چھٹکارا دے اے پناہ دینے والے خدا اے اللہ

لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت محمدؐ کی امت کے تمام گناہوں کو بخش دے

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ انْصُرْ اُمَّةَ

رحم کر اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ

کی ساری امت کی مدد کر اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ کی

لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ


امت کو مخالفین پر فتح نصیب کر اے اللہ

اَصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اصلاح کر امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

اے اللہ کشادگی کر امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی



وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ كَرِّمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ

اے اللہ عزت مند کر امتِ محمد

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ

صلی اللہ علیہ وسلم کو اے بڑائی عطا کر

اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ

امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ

تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

درگذر کر امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ يَا حَبِيْبَ التَّوَّابِيْنَ

سے اے خدا اے توبہ کرنے والوں کے محبوب

تُبْ عَلَيْنَا وَيَا اَمَانَ الْخَائِفِيْنَ اٰمِنَّا


ہماری طرف رحمت کیساتھ متوجہ ہو اے خوفزدہ لوگونکے امن دینے والے ہمیں امن دے

وَيَا دَلِيْلَ الْمُتَحَيِّرِيْنَ دُلَّنَا وَيَا هَادِيَ

اے حیران اور بھولے ہوئے لوگونکو راستہ دکھانیوالے ہمیں سیدھا راستہ دکھا اے گمراہ

الْمُضِلِّيْنَ اِهْدِنَا وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ

لوگوں کو ہدایت دینے والے ہمیں ہدایت دے اے فریاد کرنیوالے لوگونکی فریاد کو سننے



أَغِثْنَا وَيَا رَجَاءَ الْمُنْقَطِعِيْنَ لَا تَقْطَعْ

لاے ہماری فریاد کو پہنچ اے ٹوٹی ہوئی امید والے لوگوں کی امید ہماری امیدوں

رَجَاءَنَا وَيَا رَاحِمَ الْعَاصِيْنَ اِرْحَمْنَا

کو مت توڑ اور اے نافرمانوں پر رحم کرنیوالے ہم پر رحم کر اے گناہگاروں

وَيَا غَافِرَ الْمُذْنِبِيْنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا

کے گناہوں کی مغفرت کرنیوالے ہمارے گناہوں کو بخشدے اور ہماری

وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ

برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ مار

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوْبَنَا اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ

اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر اے ہمارے سارے عیبوں پر پردہ

عُيُوْبَنَا اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ صُدُوْرَنَا اَللّٰهُمَّ


ڈال اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے اے اللہ ہمارے

احْفَظْ قُلُوْبَنَا اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا

دلوں کی بے دینی سے حفاظت کر اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی مغفرت سے روشن

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُبُوْرَنَا اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ اُمُوْرَنَا

کر اے اللہ ہماری قبروں کو روشن کر اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان کر



اَللّٰهُمَّ حَصِّلْ مُرَادَنَا اَللّٰهُمَّ تَمِّمْ تَقَاصِيْرَنَا

اے اللہ ہماری مرادوں کو حاصل کر اے اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو ختم کر دے

اَللّٰهُمَّ نَجِّنَا مِمَّا نَخَافُ يَاخَفِيَّ الْاَلْطَافِ

اے اللہ ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے ہمیں نجات دے اے چھپی ہوئی مہربانیوں

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِمَشَائِخِنَا

والے خدا اے اللہ مغفرت کر ہمیں اور ہمارے ماں باپ پر اور ہمارے بزرگوں

وَلِاُسْتَاذِنَا وَلِاَصْحَابِنَا وَلِاَحْبَابِنَا وَلِعَشَائِرِنَا

اور ہمارے استادوں اور ہمارے ساتھیوں اور ہمارے دوستوں اور ہمارے رشتہ داروں

وَلِقَبَائِلِنَا وَلِمَنْ لَهٗ حَقٌّ عَلَيْنَا وَالْجَمِيْعِ

اور ہمارے قبیلہ والوں اور اس آدمی کو ہمارے اوپر کوئی حق ہے اور تمام امت

اُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

محمد کو اس پر خدا کی رحمت اور سلامتی نازل ہو اور بچا ہم کو اے ہمارے رب

وَقِنَا رَبَّنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَقِنَا رَبَّنَا

اس چیز سے جسکا تو نے فیصلہ کر لیا ہے اور بچا ہمکو اے ہمارے رب قبر کے عذاب سے

عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ

دوزخ کے عذاب اور قیامت کے دن کے عذاب سے اور ہمیں اٹھا قیامت



يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَاحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

کے دن اپنے سے ڈرنیوالوں اور نیک لوگوں کے ساتھ اے اللہ اس

وَالْاَبْرَارِ اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ هٰذِهِ الْاَوْرَادِ

اوراد فتحیہ کی برکت سے ہم پر اپنی مہربانیوں اور بخششوں کے دروازے

الْفُتْحِيَّةِ اِفْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ الْعِنَايَاتِ وَ

کھول اور اے خدا توفیق دے ہمیں اپنی فرمانبرداریوں اور عبادتوں

الْكَرَامَاتِ وَوَفِّقْنَا لِلطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ

کی اور اے خدا بچا ہمیں اور اپنی آزمائشوں سے اور اے خدا ہمارے

وَاحْفَظْنَا مِنَ الْاٰفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ وَبَارِكْ لَنَا

رزق اور عمر اور نیکیوں میں برکت دے اور محفوظ رکھ ہمیں اے اللہ

فِي الرِّزْقِ وَالْعُمُرِ وَالْحَسَنٰتِ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا

اے فیض و برکت والے خدا تمام آزمائشوں اور بیماریوں سے اور خدا اپنی رحمت

يَا فَيَّاضُ مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَايَا وَالْاَمْرَاضِ وَصَلَّى اللّٰهُ

اور درود اس ذات پر بھیجے جو اپنی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں جنکا نام محمد ہے

عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝

اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے صحابہ کرام پر